



سوال

(297) مادری بہن کے ترکہ کی تقسیم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

محمد ابراہیم بذریعہ امی میل پوچھتے ہیں کہ میری ایک مادری بہن فوت ہو گئی۔ اور وہ لاولد تھی۔ اس کے ورثاء میں ہم دو بھائی اور اس کے چچا زاد بھائی زندہ ہیں۔ متوفیہ کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اسلامی ضابطہ میراث کے مطابق اگر مرنے والا لاولد ہو تو اس کی جائیداد میں سے مادری بہن بھائی متعدد ہونے کی صورت میں ایک تہائی کے حقدار ہیں۔ اور اس حصے کو میت کے بہن بھائی برابر تقسیم کریں گے۔ جیسا کہ (4/النساء: 13) میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ پھر یہ مقررہ لینے والوں سے باقی جو بچے گا وہ میت کے ان قریبی رشتہ داروں کے لئے ہے۔ جو مذکور ہو اس کی وضاحت صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6732 میں ہے۔ سہولت کے پیش نظر متوفیہ کی جائیداد کو کچھ حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ دو حصے دونوں بھائیوں کو جو ماں کی طرف سے ہیں۔ اور وہ آپس میں ایک ایک حصہ بانٹ لیں گے۔ اور باقی چار حصے چچا زاد بھائیوں کو مل جائیں گے۔ کیونکہ مقررہ حصہ لینے والوں کے بعد چچا زاد بھائیوں کے علاوہ اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے جسے باقی حصہ دیا جائے (واللہ اعلم بالصواب)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 1 صفحہ: 322